

مَقَالَاتٌ وَمَضَامِينٌ

اسلام ”دین کامل“ ہے

محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری جعفر بن نوری
اس میں کسی بھی ”ازم“، کی گنجائش نہیں

”محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف صاحب بنوری جعفر بن نوری کی ایک اہم تقریر جو آپ نے حریم شریفین کی زیارت اور حج سے واپسی کے دوسرے دن بروز جمعہ ۲۱ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ کو ایک جمیع کشی کے سامنے جامع مسجد علامہ بنوری نادون میں فرمائی اور ماہنامہ بیانات میں اس کا اختصار ”بصائر و عبر“ میں پیش کیا گیا، جس میں موجودہ ملکی و عالمی حالات پر تبصرہ کے ساتھ ساتھ عوام و خواص کے لیے لائحہ عمل بھی ہے اور دینِ اسلام کی تکمیل اور جامعیت کا بیان بھی ہے۔ قندِ عمر کے طور پر ہدیہ تقاریبیں ہے۔“

خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مندرجہ ذیل تلاوت فرمائی:

”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا“ (الائدۃ: ۳)

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل بنادیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو بخشیت دین تمہارے لیے پسند کیا۔“

عزیز ان گرامی قدر اور محترم بزرگو! میں آپ سے تقریباً ۲۸ روز غیر حاضر ہا، ان دنوں میں آپ پر کیا گزری اس سے آپ سب حضرات خوب واقف ہیں، اس ملک میں اسلام پر جو کچھ بیت رہی ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے پیش نظر میں نے ایک عرصہ سے اخبار یمنی تقریباً ترک کر دی تھی، کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی دردناک خبر ملتی تھی اور کسی نہ کسی روح فرسا واقعہ سے سابقہ پڑتا تھا، پھر عربی و فوایش اور ان کی تصاویر سے اخبارات بھرے ہوتے تھے، اس لیے جب یہاں تھا تو ان سے اجتناب کرتا تھا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی خبر کان میں پڑتی جاتی تھی، یہاں سے جانے کے بعد رخ ہی دوسری طرف تھا، اس لیے خود کو خالی الذہن کر لیا تھا، لیکن ان ۲۸ ردنوں میں جو کچھ اس ملک پر گزرا

اور برسوں کی مسافت جو چند دنوں میں طے ہوئی وہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اس سے صرف نظر کیا جائے اور ذرا بھی غفلت بر تی جائے۔ ہم آپ ایک ہی کشتمی کے سوار ہیں، جب کُل شتی ڈوب رہی ہو تو ہر مسافر کو اس کے پچانے کی فکر میں لگ جانا چاہیے۔ کچھ تو میں نے حر میں شریفین میں اس بدقسمت ملک کے بارے میں سننا اور کچھ یہاں آ کر بعض کرم فرماؤں نے بتایا۔ ان خبروں اور حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان آج اپنی تاریخ کے انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ دنیا میں انقلابات آتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، طوائفِ الملوکی پھیل جاتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کسی کے لیے تختِ سلطنت ہے تو کل اس کے لیے تختہ دار ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارا ملک اس سے بھی شدید ترین خطرات سے دو چار ہے۔ داخلی اور خارجی فتنوں نے اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اس کو گھیر رکھا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، روس اور چین ایک عرصہ سے اس ملک کو اپنی چراغاں بنائے ہوئے تھے اور اپنے اپنے ایجنٹوں کے ذریعہ عمل جرائم میں مصروف تھے، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کو اپنی حالت میں رہنے نہ دیں اور یہ ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس سے اس کو کوسوں دور ڈال دیں۔

برطانیہ ایک زہریلے بچھوکی طرح نیشن زنی میں مصروف رہتا ہی ہے۔ برطانیہ کی تاریخ جس قدر قدیم ہے، اسلام اور مسلمانوں سے اس کی عداوت بھی اتنی ہی قدیم ہے، اس کی خواہش ہمیشہ سے یہ ہے کہ یہ ملک مسلمان ملک کی حیثیت سے زندہ نہ رہے۔ امریکہ دوسرا شیطان ہے جو اسی فکر میں ڈوبتا ہوا ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے اور ہندوستان اس پر حاوی اور قوی ہو جائے، اس پر وہ کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ روس بڑا بدمعاش ہے، وہ چاہتا ہے کہ لگے ہاتھوں وہ بھی اپنے بلاک کو وسیع کر لے، امریکہ کو شکست دے دے اور دنیا کو اپنے غیر فطری امور، خدادشمن نظام کمیونزم کی لپیٹ میں لے لے۔ درمیان میں ایک نیا شیطان اور آنکھا ہے جس کا نام چین ہے، وہ بھی اپنی لچائی ہوئی نگاہیں پاکستان پر اور افریقہ والیا کے دوسرے ملکوں پر ڈال رہا ہے۔ یہ تمام دشمن ملک کے موجودہ حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی توقعات اب وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہیں اور اپنے جالوں کے پھندے بڑے تیزی سے کس رہے ہیں۔ ادھر ملک میں کچھ حضرات جن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے وہ ان بیرونی ملکوں کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ صدر صاحب اپنے اعمال کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، اپنے دہ سالہ کرتوتوں کی سزا پا رہے ہیں، قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْعِزُ
مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔“ (آل عمران: ۲۶)

”آپ کہا کریں: اے اللہ! تو ہی ہے بادشاہت کا مالک، جس کو چاہتا ہے سلطنت سے نوازتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت و حکومت کو چھین لیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت

سے سرفراز فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت و رسائی سے ہمکنار کرتا ہے۔ خیر تیرے ہی دستِ قدرت میں ہے۔ بلاشبہ تو ہر چیز پر قدرت بیکراں رکھتا ہے۔“

صدر صاحب آج معکوس حالت سے دوچار ہیں، وہ کل تک عزیز تھے، انہیں ملک کا نجات دہندہ سمجھا جا رہا تھا، اس زمانہ میں کہا جا رہا تھا کہ سمندر نے بھی سونا لگنا شروع کر دیا۔ سمندر نے سونا بے شک اگلا اور خوب اگلا یہ اور بات ہے کہ وہ سونا بعد میں پیتل بن گیا، پھر آپ کو وہ زمانہ بھی یاد ہو گا جب ہندوستان نے پاکستان کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا تھا، صدر صاحب کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا اور تقریر سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت پڑی، ریڈ یو بھی مسلمان ہو گیا، حکومت مسلمان ہو گئی، فوج بھی مسلمان ہو گئی، فوجوں نے جامِ شہادت نوش کیے، اخلاص اور کامل اخلاص سے لڑے، مساجد نمازیوں سے بھر گئیں۔ آخر کار مسلمانوں کی جان میں جان آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ملک کو بچالیا، پھر یک یہ ملک کے حالات بد لے یا زبردستی ان کو بدل گیا، دینی فضاظوقاًم ہوئی تھی اس کو فواحش و منکرات اور ٹیڈی ازم کے نزغے سے ختم کیا گیا۔ بہر حال اس وقت ملک جن خطرات سے دوچار ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اس وقت دو طبقے ہیں جن کے ذمہ میں فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ میدان میں اُتر کر اس ملک کو خطراتِ کفر و الحاد اور بے چینی کے تسلط سے بچائیں اور اسلام اور امن و سلامتی کے راستے پر ملک کو چلا کر عزت و سرفرازی سے ہمکنار کریں۔

علماء کی ذمہ داری اور ان کے فرائض

ایک طبقہ علماء کا ہے، علماء پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کامل اخلاص اور پوری تنہی سے اس وقت کام کریں، وہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو عزت دی ہے وہ سب کچھ رسول اللہ ﷺ کے دینِ مبین کا صدقہ ہے، مسلمانوں میں ہماری جو کچھ عظمت و احترام اور ادب ہے وہ سب اللہ کے دین سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ آج اس ملک میں اسلام پر جو کچھ گزر رہا ہے یا گزرنے والا ہے اس میں علماء کیا کروادا کریں گے؟ دنیا کی آنکھیں اس کی طرف گلی ہوئی ہیں۔ علماء جو کچھ کریں گے تاریخ اپنے سفینوں میں اور قوم اپنے سینوں میں اس کو ہمیشہ محفوظ رکھے گی۔ آج علماء کے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم حق کہیں اور حق کے لیے کہیں اور حق تعالیٰ جل مجدہ، کی رضا و خوشنودی کے لیے کہیں اور جو کام کریں نفس کا شایبہ تک اس میں نہ ہو، وہ حدیث رسول ﷺ تو علماء کے سامنے ہو گی اور پڑھائی ہو گی:

”قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلے علماء، مجاہدین، سخاوت کرنے والوں کی پیشی ہو گی، سب سے پہلے علماء کی باری آئے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے علم کس لیے حاصل کیا تھا؟ عرض کریں گے کہ: تیری رضا کے لیے۔ ارشاد ہو گا: غلط کہتے ہو، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ

جو انسان کسی قوم سے مشاہدہ پیدا کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ (حضرت محمد ﷺ)

تم کو عالم کہا جائے اور لوگ تمہاری عزت کریں، چنانچہ ایسا ہو گیا (لوگ تمہیں عالم کہنے لگے) پھر حکم ہو گا ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو اور وہ جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے۔ پھر اسی طرح مجاہدین کا نمبر آئے گا اور ان سے بھی یہی سوال و جواب ہو کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آخر میں سخاوت کرنے والے آئیں گے اور ان پر بھی یہی ماجرا گزرے گا۔ (صحیح مسلم)

لہذا علماء ربانیین کا اہم فریضہ ہے کہ وہ سروں سے کفن باندھ کر میدان میں آ جائیں، بہت بے حسی اور غیرتی کی بات ہو گی کہ دین پر نازک ترین وقت آ جائے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں اور تاویلیں کرتے رہیں کہ ابھی عزیت کا وقت نہیں، رخصت پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہو گا، علماء خاموشی نہیں پیٹھیں گے، ان شاء اللہ ثم إن شاء اللہ۔ ہماری تو آ رزو ہے کہ دین کے تقاضے ہم سے پورے ہو جائیں، الحمد للہ میں ۲۰ رساں سے شہادت کی آ رزو سے اپنے سیدنا کو گرم کر رکھا ہے، اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو گی کہ اس کی راہ میں شہادت نصیب ہو، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ علماء کی طرف سے کام ہو مگر صحیح، درست، عقل اور تدبیر سے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، وما ذلک على اللہ بعزيز.

عوام کے فرائض و ذمہ داریاں

دوسری ذمہ داری عام مسلمانوں کی ہے جن سے اس وقت میں مخاطب ہوں، اگرچہ اس ملک میں ملاحدہ، زنا دقة، بے دین اور اسلام سے مخالف لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، تاہم ملک کی بھاری اکثریت حلقہ بگوشِ اسلام ہے جو اس ملک میں اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ہے اور اسلام سے روگردانی اور انحراف کو سب سے بڑا گناہ تصور کرتی ہے، ان ہی حضرات کے سامنے میں اپنی معروضات پیش کر رہا ہوں کہ:

آپ اس وقت سخت امتحان میں ڈال دیئے گئے ہیں، آپ علماء حق کی دعوت پر بلیک کہیں اور ان فقتوں سے نبرد آزمائے ہوئے میں علماء کا ہاتھ بٹایں، عوام مسلمین کی قربانیاں اسی وقت نتیجہ خیز ثابت ہوں گی، جب یہ صحیح قیادت کے تحت کام کریں اور صحیح قیادت علماء ربانیین ہی کی ہو سکتی ہے:

لا يصلح الناس فوضی لا سراة لهم ولا سراة إذا جھا لهم سادوا

”صحیح قیادت کے بغیر انتشار اور پر اگندگی کی حالت میں لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی

اور جاہلوں کی سیادت کو صحیح قیادت نہیں کہا جاسکتا۔“

آپ کو معلوم ہے کہ اس مسلمان ملک میں سو شلزم اور کمیونزم کے نفرے لگ رہے ہیں اور بڑے زورو شور کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے انہم ضلال و فرق لوگوں کی

سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی عمر بھی ہو اور اعمال بیک ہوں۔ (حضرت محمد ﷺ)

قیادت کر رہے ہیں، اور خود بھی شرارت اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اب ہماری خاموشی بدترین جرم ہو گی، اگر دین دار مسلمان اسلام کی حفاظت و صیانت اور دفاع سے خاموش ہو گئے تو یہاں اسلام ختم ہو جائے گا اور دنیا کے نقشہ سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا، اس موقع پر قرآن کریم آپ کو پاک رہا ہے اور کہہ رہا ہے:

”وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقًّا جِهَادٍ۔“ (ج: ۷۸)

”جِهَادُكُرْ وَاللّٰهُ كَرْ“ راستے میں، جیسا کہ تقدیم ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے کا۔“

یہاں پر یہ در دنیا ک حقیقت بھی سنتے جائیے کہ پچھلے دنوں ڈھا کہ میں حزب اختلاف کی آٹھ جماعتیں جمع ہوئیں اور ان کا اسلام پر اتفاق نہ ہو سکا، چند سلبی چیزیں ان کے اتفاق و اختلاف کے نقطے بن سکیں، لیکن نظامِ اسلام اور محمد رسول اللہ ﷺ کا لا یا ہوادین اتفاقی نقطہ نہ بن سکا۔

شروع میں میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے متعلق آپ جانتے ہوں گے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور اس کی نویں تاریخ تھی، عرفہ کا دن تھا، حضور اکرم ﷺ کی عمر مبارک کا ۲۳ واں برس تھا، نبوت کا تینیسوال سال تھا، جمعداً دن تھا، عصر کا وقت تھا، آپ ﷺ اپنی اونٹی قصوی پر سوار تھے، مخاطبین میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زیر، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اور ایک لاکھ صحابہ موجود تھے، یہ ایک مجتمع تھا کہ چشم فلک نے اس سے زیادہ مقدس، اس سے زیادہ پاکیزہ، اس سے زیادہ جاں نثار مجع نہیں دیکھا اور نہ کبھی دیکھے گا۔ اسلامی تاریخ نے یہ سب کچھ محفوظ کر رکھا ہے اور اس طرح کہ اس سے زیادہ حفاظت کا تصور نہیں کیا جاسکتا، پھر مسلمانوں نے اپنے ہادی برحق خاتم الانبیاء ﷺ کی سیرت اور آپ کے انفاس قدسیہ کو تو اس طرح محفوظ کر رکھا ہے کہ کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ آپ ﷺ کی پاکیزہ زندگی کا ایک ایک لمحہ حدیث و سیرت میں محفوظ ہے۔ الغرض آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا وہ دین جس کا سلسلہ نہ صرف ۲۳ سال بلکہ ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے جاری تھا، مکمل و کامل کر دیا اور نعمت یعنی نعمت نبوت یا نعمت اسلام یا اللہ سے تعلق کو پورا کر دیا۔ اب دنیا میں تمہاری فلاح اور دنیا و آخرت دونوں میں تمہاری فلاح و نجات صرف دین اسلام سے وابستہ ہے، تمہاری صلاح و فلاح کسی بھی ازم یا نظامِ حیات سے وابستہ نہیں ہے۔

غور فرمائیے: جب یہ آیت کریمہ اُتری ہے، اس وقت دنیا میں مختلف اور متعدد مذاہب اور نظام ہمارے حیات موجود تھے، مختلف ”ازم“ موجود تھے، جن سے دنیا آشنا تھی، آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کی ابتدائی شکلیں اس وقت موجود تھیں، لیکن رب کریم نے ان سب پر خطِ تنبیخ پھیر کر اسلام اور صرف اسلام کو ہماری خیر و فلاح کا ضامن ٹھہرا�ا ہے، کیونکہ اس قانون کا بنانے والا رب العالمین،

احکم الحاکمین، ارحم الراحمین ہے، جس کی مدح و ثناء ہم عاجز بندے کر ہی نہیں سکتے، پھر نہ

اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اس کی خلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ (حضرت محمد ﷺ)

صرف یہ کہ اس نے اس دین کو پسند کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا:

”وَمَنْ يَعْمَلْ غَيْرَ الِّإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُفْلِتَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (آل عمران: ۸۵)

”جو شخص اسلام کے علاوہ کسی نظام کو اپنادین بنائے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں کی فہرست میں شمار ہوگا۔“

کمالِ دین کا مطلب اور اس کا معنی

یہ بھی سمجھنے کے کمالِ دین کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین میں عقائد، عبادات، احکام، معاملات، معاشرت، قانون صلح و جنگ، اقتصادیات، معاشیات، سیاسیات سب کچھ موجود ہو، ورنہ اگر انسانی زندگی سے متعلق کوئی ایک شعبہ بھی نہ ہو تو وہ کامل نہیں ہو سکتا، وہ ناقص اور محتاجِ تکمیل کھلائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس دین کو کامل فرمار ہے یہی اور واقعتاً اس میں سب کچھ موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم امریکہ، روس یا چین سے کسی ازم کی بھیک مانگیں، درحقیقت کسی بھی دوسرے ازم سے بھیک مانگنا اور اسلام میں اس کا پونڈ لگانا شرک فی الربویۃ ہے، جو شرک کی بدترین قسم ہے اور جو شخص اس کو جائز سمجھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، نہ اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور نہ آخرت پر۔ موجودہ حالات کے تحت اسلام کے معاشری نظام کی ترتیب و تنظیم زیر یغور ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، تاکہ ثابت پہلو میں دین کا یہ نقشہ آپ کے سامنے آجائے۔

ساری دنیا کا محور آج کل پیٹ کا مسئلہ ہے، اسلام نے پیٹ کے مسئلہ کو حل کیا ہے، لیکن اس کے پسِ مظہر میں انسان کو حیوان سے اور جانوروں سے ممتاز کرنے کی غرض سے ایک مستقل نظامِ روحانیت یعنی عقائد و عبادات، اعمال صالحہ و اخلاقی فاضلہ کو محفوظ رکھا ہے۔ اس کے بر عکس امریکہ نے زر اندازی اور عیش کو شی کوہی زندگی کا مقصد قرار دیا ہے۔ روس اور چین نے پیٹ کے مسئلہ کو جیسا تیسا حل کیا، لیکن انسان کو جانور بنا کر ساری انسانی مکرمت اور تو قیر چھین لی اور تمام اخلاقی اور روحانی اقدار کو پا مال کر کے زرا حیوان بناؤ لا، اسلام ہی وہ دین کامل ہے جس نے انسان کا صحیح مقام اس دنیا میں متعین کیا اور اس کو وہ نظام حیات دیا ہے جو اس کے شایانی شان ہے، اسلام میں صرف روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ جانوروں کا نعرہ تو ہو سکتا ہے انسان کا نعرہ ہرگز نہیں ہو سکتا، لہذا:

اسلام میں کسی بھی ازم کی گنجائش نہیں ہے، نہ کیپٹل ازم کی، نہ سو شلزم کی، نہ نیشنلزم کی
آج ہمارے ملک میں جو مشکلات ہیں وہ معاذ اللہ اسلام کی پیدا کر دہ ہرگز نہیں ہیں، بلکہ لوگوں نے اسلامی نظام جس کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا، اس کو پس پشت ڈال کر اور مغربی سرمایہ دارانہ نظام کو اپنا کر یہ مشکلات خود پیدا کی ہیں، اس ملک میں اسلام کو ایک دن بھی اپنا معاشری نظام

ہرگز کوئی آدمی موت کی تمنا نہیں کرے گا سو اے اس کے جس کو اپنے عمل پر بھروسہ ہو گا۔ (حضرت ابو بکر صدیق (رض))

جاری کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اگر اسلام کے معاشر نظام کو یہاں جاری کیا جاتا تو اس کا امکان ہی نہیں تھا کہ ملک کی معاشری حالت اس درجہ پر پہنچتی اور یہ سو شلزم کے فرانڈ نفرے بلند ہوتے۔

اسلامی سو شلزم کا نفرہ

پھر ان سارے نعروں میں سب سے زیادہ دلچسپ یا تکلیف دہ نفرہ اسلامی سو شلزم کا ہے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟! یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ کہا جائے: ”اسلامی دہریت“، ”اسلامی لادنی“، ”اسلامی شراب“، ”اسلامی قبیہ خانہ“، بلکہ میرے نزدیک ”اسلامی سو شلزم“، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے تو اسلام کے عقیدہ پر زد پڑتی ہے کہ دین مکمل نہیں ہے۔

اگر کوئی دین واہیمان سے کورا انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ موجودہ دور بدلتا گیا ہے، اس لیے ہمیں نئے نظام کی ضرورت ہے تو ایسا شخص کافرانہ غلطی میں بنتا ہے اور اس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول برحق (صلی اللہ علیہ و آله و سلم) پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون تو اللہ علیم و خبیر کا بنایا ہوا ہے، جو قیامت تک آنے والی نسلوں، ان کے امراض و عوارض، ان کی حاجات و ضروریات، مرغوبات و میلانات کو جانے والا تھا اور ہے، اس کا علم گزشتہ اور آئندہ سب پر محیط ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اس نے اپنے اس ابدی قانون میں اپنے علم اور قدرت دونوں کو سmodیا ہے، اب نہ کوئی قانون آنے والا ہے، نہ کوئی نبی مبعوث ہونے والا ہے، اب ہماری ہدایت کے لیے یہی نجٹہ کیمیا کافی و شافی ہے۔

اب اس وقت آپ کے سامنے کام کی ترتیب یہ ہے:

الف: جہاد بالسان، یعنی زبان سے جہاد۔ علماء اس میں پہل کریں، آپ ان کی معادنت کریں اور اپنے ماحول و گرد و پیش میں اسلام کے لیے مسلسل کام کرتے رہیں۔

ب: جہاد بالقلم، جو شخص لکھنے کی قدرت و صلاحیت رکھتا ہے وہ ان فتنوں کے خلاف لکھے، اخبار نویں اخبارات میں، مصنفوں و مؤلفین رسائل و کتابوں میں۔

ج: جہاد بالقوۃ، یعنی ضرورت کے وقت اپنے دست بازو کی قوت کو کام میں لا کیں اور ان فتنوں کی بخش کنی کر کے ہی دم لیں۔

ان شاء اللہ! آپ مجھے اس کام میں پیچھے نہ پائیں گے، آپ سپاہی ہوں گے اور میں آپ کا قائد، اسلام کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو گا، جلد ہی ان شاء اللہ کچھ اور چیزیں اور پروگرام کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔

وآخر دعوانا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

.....✿.....✿.....✿.....